



سوال

(545) جمہور اہل علم کے نزدیک گانا حرام ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے اخبار عکاظ کے شمارہ نمبر ۶۱۰۱ مجریہ ہفتہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ میں ایک خبر پڑھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سعودی نغمہ ساز نے گانا بجانا ترک کر دیا تھا لیکن جب قاہرہ اور پیرس کے مابین ایک ہوائی سفر کے دوران میں اس نغمہ ساز کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی اور دونوں نے گانا بجانا اور اس کی مشروعیت کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا تو طیارہ سے اترنے سے پہلے اس عالم دین نے دلائل و براہین کے ساتھ اس نغمہ ساز کو قائل کر لیا کہ گانا بجانا شرعاً جائز ہے، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ گانے گائے جو اس کے نئے گانے شمار ہوتے ہیں، دلائل و براہین کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا گانا بجانا اسلام میں جائز ہے خصوصاً عصر حاضر کے گانے جو فحش بھی ہیں اور پھر موسیقی کے ساتھ گائے جاتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جمہور اہل علم کے نزدیک گانا حرام ہے اور اگر گانا طبلہ اور سارنگی جیسے آلات موسیقی کے ساتھ گایا جائے تو اس کے حرام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کی حرمت کے دلائل میں سے ایک تو یہ ارشاد ربانی ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَشْهَدُ بِهَذَا أُولَئِكَ أَنَّهُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ ۝ ۱ ... سورة لقمان

”اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بے حودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے [لوگوں] کو بغیر علم کے گمراہ کرے، اور اس سے استہزاء کرے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔“ [جمہور مفسرین نے "لهو الحدیث" کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے مراد گانا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کر فرماتے ہیں اس سے مراد گانا ہے، نیز عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔

الغناء نبئت النفاق فی القلب كما نبئت الماء البقل، [السنن الکبریٰ - للبیہقی، : ۱۰۰/۱۲۳، ابن ابی الدنیانی ذم الملاہی، ص ۳، سنن ابی داؤد، الادب، باب، کراہیۃ الغناء والزمر، ح : ۳۹۲۷ مختصراً :

”گانا دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی سے کھیتی پروان چڑھتی ہے۔“



صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیکونن من امتی اقوام یستحلون، الخمر، والحریر، والنخز، والمعازف، [صحیح بخاری، الاثریت، باب ماجاء فیمن یستحل الخمر یمسیه بغیر اسمہ - ح: ۵۵۹۰]

”میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔“

اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں معلقاً مگر صحت کے وثوق سے روایت کیا ہے، جبکہ دیگر ائمہ نے بھی صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث کے لفظ ”معازف“ کے معنی گانے اور آلات موسیقی کے ہیں تو اس سے معلوم ہوا جس نے گانے کے جواز کا فتویٰ دیا [اگر یہ بات صحیح ہے] تو اس نے بغیر علم کے ایک بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور ایک ایسا باطل فتویٰ دیا ہے کہ روز قیامت جس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 416

محدث فتویٰ